

Houston methodist پالیسی اور طریق کار FI86

تاریخ موثر العمل:
1 جنوری، 2016

موضوع:
توسیعی ادائیگی کا اختیار

نظر ثانی/ جائزہ کی تاریخ
1 جنوری، 2016

اطلاق ہوتا ہے:
ہسپتال اور PO

نظر ثانی کی ابدائی تاریخ:
1 جنوری، 2019

شروعات کا علاقہ:
ریونیو سائیکل کونسل

ا. پالیسی

Houston methodist ایسے مریضوں کو ایک بلاسود توسیعی ادائیگی کا اختیار فراہم کرے گا جو اپنے بقایا جات کی ادائیگی یکمشت طور پر نہیں کرسکتے۔

ii. طریق کار

A. توسیعی ادائیگی کا اختیار ترتیب دینے کے لیے درج ذیل رہنما خطوط کو استعمال کیا جاتا ہے:

1. توسیعی ادائیگی کے لیے اہل کھاتے کا کم از کم بقایا رقم \$50 ہے؛
2. بقایا رقم کی مکمل ادائیگی کے لیے وقت میں زیادہ سے زیادہ توسیع کی مدت 18 مہینے ہے؛ اور
3. کم از کم ماہانہ ادائیگی \$20 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔

B. توسیعی ادائیگی کی شرائط کی خلاف ورزی پر درج ذیل کارروائیاں کی جائیں گی:

1. مقررہ رقم کے 50% سے کم کی ادائیگی کو چھوٹی ہوئی ادائیگی تصور کیا جائے گا؛
2. چھوٹی ہوئی ادائیگی کی صورت میں اس پوری رقم کی ادائیگی، چھوٹی ہوئی ادائیگی کے چار مہینوں کے اندر کی جانی چاہیے تاکہ ادائیگی کے منصوبے کو جاری تصور کیا جائے؛ اور
3. کوئی توسیعی ادائیگی والا منصوبہ جو چھوٹی ہوئی ادائیگی کے چار مہینوں کے اندر تازہ حالت میں نہ ہو اسے نادہندہ تصور کیا جائے گا اور ناقابل وصول قرضہ میں منتقل کر دیا جائے گا۔

C. ذیل میں ایسے اقدامات ہیں جو کسی مقررہ ادائیگی کے منصوبے کے سلسلے میں کیے جائیں گے جب مریض پر اضافی بقایا واجب الادا ہوتا ہے:

1. ادائیگی کے منصوبے میں ماہانہ ادائیگی کی رقم میں اضافہ کر کے، ایک اضافی بقایا جوڑا جائے گا جو کہ ماہانہ ادائیگی کے 10% سے کم ہوتا ہے؛ اور
2. ادائیگی کی تعداد کو بڑھا کر ادائیگی کے منصوبے میں اضافی رقم جوڑی جائے گی جو ماہانہ ادائیگی کے 10% سے زیادہ ہوتی ہے۔

iii. معتبر حوالہ

1. وصولی کی پالیسی - FI85

ریونیو سائیکل کونسل کے ذریعہ تجویز کردہ
CFO کونسل کے ذریعہ منظور کردہ

چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر سے اجازت یافتہ:

(فائل میں موجود اصل پر دستخط کیا)

تاریخ

ایم بوم (M. Boom)

صدر

چیف ایگزیکٹو آفیسر

Houston Methodist